



اللہ! میں عاجز ہوں، سستی، بزدلی، بڑھاپہ اور بخل سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور میں قبر کے عذاب اور زندگی اور موت کی آزمائشوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں

انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے دعا کرتے تھے: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْجُبْنِ وَالْهَرَمِ وَالْبُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ" اللہ! میں عاجز ہوں، سستی، بزدلی، بڑھاپہ اور بخل سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور میں قبر کے عذاب اور زندگی اور موت کی آزمائشوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں ایک روایت میں ہے: "قرض کے بوجھ اور لوگوں کے قہر اور غلبہ سے تیری پناہ مانگتا ہوں"

[صحیح] [اسلام] امام بخاری نے روایت کیا ہے - متفق علیہ

یہ حدیث جوامع الکلم میں شمار ہوتی ہے، جوامع الکلم سے مراد یہ ہے کہ آپ ﷺ کے الفاظ میں زیادہ معانی بیان کریں، اس لیے کہ آپ ﷺ نے اس میں ان تمام آفات اور شرور سے پناہ مانگی جو اللہ کی طرف بندہ کے متوجہ ہونے میں رکاوٹ بنتے ہیں آپ ﷺ نے عجز اور سستی سے پناہ مانگی، یہ دونوں کام نہ کرنے اور حرکت کرنے میں ایسی رکاوٹیں ہیں جو قریب قریب ہیں یا تو ہمت کمزور ہونے کی وجہ سے یا ارادہ کی کمی کی وجہ سے، یہ سستی سے سست لوگ سب سے کم ہمت اور کم رغبت رکھنے والے ہوتے ہیں اور کبھی کام نہ کرنا بندہ کے قدرت نہ رکھنے کی وجہ سے ہوتا ہے اس سے عاجز کہتے ہیں "بزدلی" اور "بخل" سے آپ ﷺ نے پناہ مانگی یہ دونوں چیزیں واجب کی ادائیگی اور احسان کی راہ میں رکاوٹ ہیں، بزدلی انسان کے دل کو کمزور کرتی ہے، پھر وہ دل کے کمزور ہونے اور اللہ کے سوا لوگوں کے ساتھ تعلق کی وجہ سے نہ امر بالمعروف کر سکتا ہے اور نہ نہی عن المنکر کر سکتا ہے "بخل" انسان کو خرچ کرنے کے موقعوں پر خرچ کرنے سے روکتا ہے، بخیل شخص اللہ تعالیٰ کا حق زکوٰۃ نہیں دیتا اور مخلوق پر خرچ کرنے سے باز رہ کر ان کا حق ادا نہیں کرتا چنانچہ یہ اللہ اور لوگوں دونوں کے ہاں مبعوض رہتا ہے "ہرم" یعنی انسان کا ارذلِ عمر (کھوسٹ بڑھاپا) کو پہنچ جانا جب انسان انتہائی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو اپنے اکثر حواس کو وہ کھو بیٹھتا ہے، اس کے قویٰ کمزور ہوجاتے ہیں جس کی وجہ سے نہ وہ اللہ کی عبادت کر سکتا ہے اور نہ ہی وہ اپنے گھر والوں کو کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے پھر آپ ﷺ نے عذابِ قبر سے پناہ مانگی، عذابِ قبر برحق ہے اسی لیے اللہ کے نبی ﷺ نے ہمیں سکھایا کہ ہم ہر نماز میں اس عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں پھر آپ ﷺ نے زندگی اور موت کی آزمائشوں سے پناہ مانگی جو کہ دونوں جہانوں کو شامل ہیں، "زندگی کی آزمائشوں" سے مراد دنیوی مصائب اور امتحانات ہیں اور "موت کی آزمائشوں" سے مراد برا خاتمہ اور بُری عاقبت اور قبر میں منکر نکیر کے سوالات وغیرہ ہیں ایک روایت میں ہے "قرض کے بوجھ اور لوگوں کے غلبہ سے تیری پناہ مانگتا ہوں" یہ دونوں ظلم و ستم ہیں، قرض کا بوجھ اس کی سختی، بار گراں اور اس حال میں کوئی مدد گار کا نہ ہونا یہ آدمی کے لیے ظلم و ستم کی حالت ہے جو کہ بجا ہے (یعنی ایسا ہونا قرض دینے والے کی طرف سے کوئی ناحق ظلم نہیں ہے)، "غلبۃ الرجال" یعنی لوگوں کا تسلط ہے ظلم و ستم ناجائز اور باطل ہے



النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

